



SEPTEMBER 2018

شعبان المکرم 1431ھ

Regd. # MC-1177

النزاکت فی الإمامت

مؤلف

جنسور فیض ملت، مفسر اعظم پاکستان
حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی رضوی محدث بہاولپوری نور اللہ قادری

متوفی 1431 / 2010

تخریج و حواشی

شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد عطاء اللہ نعیمی حفظہ اللہ

جمعیۃ اشاعتِ احسانتِ پاکستان

نور مسجد کاغذی بازار کس اچی ۷۴۰۰۰
Ph : 021-32439799 Website : www.ishaateislam.net

Click

chive.org/details/@zohaib

النزاکت فی الإمامت

مؤلف

حضور فیضِ ملت، مفسرِ اعظم پاکستان

حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی رضوی محدث بہاولپوری نور اللہ مرقده

(متوفی ۱۴۳۱ھ/۲۰۱۰ء)

تختیہ و تخریج

شیخ الحدیث مفتی محمد عطاء اللہ نعیمی مدظلہ العالی

ناشر

جمعیت اشاعتِ اہلسنت (پاکستان)

نور مسجد، کاغذی بازار، میٹھادر، کراچی، فون: 32439799

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

نام کتاب: النزاکت فی الإمامت

مؤلف: حضور فیض ملت، مفتی محمد فیض احمد اویسی رضوی نور اللہ مرقدہ

پیش لفظ: بانی ادارہ علامہ مولانا محمد عرفان ضیائی مدظلہ العالی

تشیہ و تخریج: شیخ الحدیث مفتی محمد عطاء اللہ نعیمی مدظلہ العالی

سن اشاعت: ذوالحجہ ۱۴۳۹ھ / ستمبر 2018ء

اشاعت نمبر: 293

ناشر: جمعیت اشاعت اہل سنت (پاکستان)

نور مسجد کاغذی بازار میٹھادر، کراچی،

فون: 32439799

خوشخبری: یہ رسالہ www.ishaateislam.net پر موجود ہے

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نماز دین کا ستون ہے۔ فرائض میں نماز ایک اہم فرض ہے۔ پھر مناصب دینیہ میں امامت ایک اہم منصب ہے اس لئے ضروری ہوا کہ اس منصب پر فائز شخص اعلیٰ صفات کا حامل ہو، اس کے عقائد بھی درست ہوں اور اعمال بھی صالح ہوں، عقائد باطلہ میں کوئی باطل عقیدہ نہ رکھتا ہو، وہ عقائد کفریہ کہ جن کے کفر ہونے پر امت کے علماء متفق ہوئے، ان میں سے کسی عقیدے کا قائل نہ ہو اور وہ لوگ کہ جن سے تقریر یا تحریر میں کفر صادر ہوا باوجود تنبیہ کے انہوں نے اس سے رجوع نہ کیا، تاہم نہ ہوئے تو علماء عرب و عجم نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا۔ ایسے لوگوں کے عقائد باطلہ کو جانتے ہوئے انہیں حق پر نہ جانتا ہو حاصل یہ کہ صحیح العقیدہ سنی ہو اور فاسق و فاجر نہ ہو بلکہ فسق و فجور سے کوسوں دور ہو، پاکی و ناپاکی کے مسائل جانتا ہو، اتنی قرأت جانتا ہو کہ جس سے نماز درست ہو سکے۔

دوسری طرف مقتدی کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کسی ایسے کی اقتدا نہ کرے جو بد عقیدہ ہو کہ باطل عقائد کے حامل کی اپنی نماز ہی نہیں ہوتی تو مقتدی کی نماز کیا ہوگی ایسے کی اقتداء سے بہتر تنہا نماز پڑھ لینا ہے کم از کم فرض تو ادا ہو جائے گا اور اگر عقائد باطلہ کے حامل کی بد عقیدگی کو جانتے ہوئے اس کی اقتداء کی تو خود مقتدی خود اپنے ایمان کی خبر منائے اور دیکھے کہ امام فاسق معلن نہ ہو کہ اس کی اقتداء مکروہ ہے اور ایسے کی اقتداء میں ادا کی گئی نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہوتی ہے اور جو نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا وہ واجب الاعادہ ہوتی ہے جیسا کہ ”در مختار“ وغیرہ میں ہے۔

اور پھر فاسق معلن کی اقتداء کرنا سے امام بنانا ہے اور ایسے فاسق کو امام بنانے

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

میں اس کی تعظیم ہے جبکہ فاسق معلق کی تعظیم ممنوع ہے جیسا کہ ”حاشیہ الطحاوی علی مراقی الفلاح“ میں ہے۔

اس لئے فیضِ ملت حضرت علامہ مفتی فیض احمد اویسی علیہ الرحمہ نے اس موضوع پر مختصر تحریر لکھ کر عوامِ اہلسنت پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔

ہمارے ادارے کے شیخ الحدیث و رئیس دارالافتاء مفتی محمد عطاء اللہ نعیمی صاحب نے اس رسالہ کی تصحیح کی اور چند جگہ حواشی تحریر کر کیا اور اس میں مذکور احادیث مبارکہ کی تخریج فرما کر اس کی افادیت میں مزید اضافہ کر دیا۔

لہذا ادارہ اس رسالہ کو اپنے رسالہ اشاعت کے 293 ویں نمبر پر شائع کرنے کا اہتمام کر رہا ہے تاکہ ائمہ حضرات کی اصلاح کا سامان ہو اور عوامِ اہلسنت اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچانے کی سعی کر سکیں۔

دعا ہے کہ اراکین ادارہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ان کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے عوام و خواص کے لئے نافع بنائے۔

فقیر محمد عرفان قادری ضیائی

خادم جمعیت اشاعتِ اہلسنت

(پاکستان) کراچی

حالاتِ مصنف

حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فیض احمد اویسی رضوی علیہ الرحمہ کی ولادت باسعادت 1351ھ، مطابق 1932ء کو گاؤں حامد آباد تحصیل خان پور، ضلع رحیم یار خان، پنجاب پاکستان میں ہوئی۔

ابتدائی دینی تعلیم گھر پر حاصل کی، پھر اپنے قریبی قصبہ ترنڈہ میر خان میں گورنمنٹ پرائمری اسکول میں داخل ہوئے، اور پانچ جماعت تک اسکول کی تعلیم حاصل کی، اور 1942ء میں پرائمری کا امتحان پاس کیا۔ والد گرامی کی خواہش کے مطابق حفظ قرآن مجید کے لئے حافظ جان محمد صاحب علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان سے آٹھ پارے حفظ کیے، اور پھر مولانا حافظ سراج احمد علیہ الرحمہ سے اٹھارہ پارے حفظ کیے، اور خیر پور ٹامبولی میں مولانا حافظ غلام حسین علیہ الرحمہ سے 1947ء میں مکمل قرآن مجید حفظ کیا۔ حفظ قرآن کے بعد درس نظامی کا آغاز کیا، فارسی کی ابتدائی کتب مولانا اللہ بخش علیہ الرحمہ سے پڑھیں، اور صرف و نحو، ہدایہ، مخضر المعانی، شرح جامی وغیرہ، امام الواعظین، واعظ شیریں بیاں، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علامہ مولانا خورشید احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھیں، بقیہ کتب علامہ مولانا عبدالکریم علیہ الرحمہ سے پڑھیں، 1952ء کو جامعہ رضویہ فیصل آباد میں محدث اعظم پاکستان حضرت شیخ الحدیث مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ حدیث مکمل کیا، اور ان کے مبارک ہاتھوں سے دستار بندی ہوئی، اور سند فراغ حاصل فرمائی۔ دورانِ تعلیم سلسلہ عالیہ اویسیہ میں حضرت محکم الدین سیرانی علیہ الرحمہ کے سجادہ نشین، حضرت مولانا خواجہ محمد الدین سیرانی علیہ الرحمہ کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے۔

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ان کے وصال کے بعد حضرت علامہ مولانا حسن علی رضوی کے توسط سے شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے۔

حضرت قبلہ فیض احمد اویسی علیہ الرحمہ اپنے وقت کے جید عالم دین، عظیم مصنف، مایہ ناز مدرس، اور بے مثال محقق تھے۔ حضرت فیض ملت علیہ الرحمہ نے حامد آباد میں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا پھر 1963ء میں بہاولپور میں جامعہ اویسیہ رضویہ اور جامع مسجد سیرانی کی بنیاد رکھی جو الحمد للہ اس وقت اہلسنت کی عظیم دینی درسگاہ ہے، جہاں تمام مرؤجہ علوم کی معیاری تعلیم دی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ مختلف مقامات پر درجنوں مدارس آپ کی زیر نگرانی چلتے رہے، اور اب آپ کی اولاد و تلامذہ ان کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ حضرت فیض ملت علیہ الرحمہ ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے بلکہ فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہر سال ماہ رمضان دیارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارتے تھے۔ جب اپنا نام تحریر کرتے تو اس طرح تحریر کرتے: ”مدینے کا بھکاری، فقیر محمد فیض احمد اویسی غفرلہ“ اتنا بڑا مصنف، جن کے ہزاروں شاگرد و مریدین ہوں، لیکن سادگی ایسی تھی کہ اکابرین کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ حضرت فیض ملت علیہ الرحمہ واقعی فیض ملت تھے۔ کون سا ایسا موضوع، اور کون سا ایسا فن ہے جس میں حضرت نے قلم کشائی نہ فرمائی ہو۔ تمام مرؤجہ علوم و فنون، عربی و فارسی زبان میں کتب کا اردو ترجمہ، اور قدیم و جدید موضوعات پر کم و بیش چار ہزار کتب تصنیف فرمائی ہیں۔

آپ کا وصال باکمال 15/ رمضان المبارک 1431ھ، مطابق 26/ اگست 2010ء، بروز جمعرات، بوقت 6:15 صبح جامعہ اویسیہ رضویہ بہاولپور میں ہوا۔ جامعہ میں ابدی آرام فرما ہیں۔

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

ابا بعد! دورِ حاضرہ میں ہر شرعی مسئلہ غفلت کی زد میں ہے۔ ۸۰ فیصد مسلمان نماز کی دولت سے محروم ہیں بیس فیصد میں سے اکثر نماز باجماعت سے محروم رہتے ہیں بعض کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے تو غیر صحیح العقیدہ اور غیر متشرع امامؑ کے پیچھے نماز پڑھ لینے میں کچھ قباحت محسوس نہیں کرتے بعض ان پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں۔ خود بعض ائمہ حضرات ایسے کردار ادا کرتے ہیں جن سے مقتدیوں کی نمازیں کراہت تحریم کا شکار ہو جاتی ہیں۔^۱

اور اکثر ماڈرن ازم کے دلدادہ لوگ ائمہ (علماء و حفاظ و قراء وغیر ہم) سے بلاوجہ از خود نفرت پیدا کر کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے باوجود نمازیں برباد کرتے ہیں اور اکثر حضرات تو ائمہ مساجد کو کراہیہ کے آدمی اور تنخواہ دار ملازم سمجھ کر توہین آمیز الفاظ استعمال کر کے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں اور یہ نہ صرف نماز پنجگانہ کا حال ہے بلکہ نماز جمعہ اور عیدین وغیرہ تک خرابیاں نمایاں ہیں طرفہ یہ کہ ان خرابیوں کو اکثر ائمہ اور مقتدی حضرات جانتے بھی ہیں لیکن ان خرابیوں کو دور کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں فرماتے۔ اگر علماء و مشائخ اور عوام اہل سنت نمازی حضرات تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو بفضلہ تعالیٰ اصلاح ہو سکتی ہے۔ نماز جنازہ کا تو اس سے اور زیادہ بُرا حال ہے مثلاً کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو مساجد کے لاؤڈ اسپیکروں میں اس کی وفات اور نماز جنازہ کے وقت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ عوام

۱۔ غیر صحیح العقیدہ کی اقتداء میں نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔

۲۔ غیر متشرع کی اقتداء میں ادا کی گئی نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہوتی ہے کہ جس کا اعادہ واجب ہوتا ہے۔

۳۔ ایسے ائمہ حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اور عوام اہلسنت کی نمازوں کو کراہت تحریمی سے بچائیں اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں، اگر باز نہیں آتے تو امامت کی مسند کو چھوڑ دیں۔

Click

علاقہ نمازِ جنازہ کی ادائیگی کے لئے وقت مقررہ پر جمع ہو جاتے ہیں اور ورثائے میت کی اجازت سے کسی عالم دین کی اقتداء میں نمازِ جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس موقع پر بعض بد مذہب مولویوں کو نمازِ جنازہ پڑھانے کے لئے کہہ دیا جاتا ہے اور سنی لوگ بھی اُس کی اقتداء میں نمازِ جنازہ ادا کرتے ہیں۔ (جنازوں کے اعلانات احادیث مبارکہ کی رو سے ممنوع ہے یوں سمجھئے کہ یہ بدعت ہے لیکن ضرورت کی وجہ سے جواز کی صورت نکل سکتی ہے طرفہ یہ کہ یہ بدعت دیوبندیوں و ہابیوں کے گھروں میں زیادہ مروج ہے یہ ان کے نزدیک جائز بلکہ ضرورت کی وجہ سے ضروری ہے ہاں ان کے نزدیک میلاد، عرس وغیرہ بدعت و حرام ہیں)

شرعی احکام

مذکورہ صورتوں میں بعض ایسی صورتیں ہیں کہ سرے سے نماز ہوگی ہی نہیں الٹا گناہ ہی گناہ جیسے بد عقیدہ امام (کہ جس کی بد عقیدگی حد کفر کو پہنچی ہوئی ہو) کے پیچھے نماز پڑھ لینا بلکہ اس کی بد عقیدگی کو اچھا سمجھ کر پڑھی تو کفر تک نوبت پہنچ جائے گی۔^۵

بعض صورتوں میں نماز مکروہ ہوگی بے خبری میں پڑھ لی تو اعادہ ضروری ہے ورنہ قیامت میں اس نماز کا حساب ہوگا جیسے فاسق و فاجر امام ہے ایسے داڑھی منڈانے والا یا قبضہ سے کم داڑھی

۵۔ بد عقیدہ کہ جس کی بد عقیدگی حد کفر کو پہنچی ہوئی ہو اس کی اقتداء میں نماز کا ابطال ان اس رسالہ کے آخر میں عنوان ”فتاویٰ علمائے اہلسنت“ کے تحت مذکور فتاویٰ میں ملاحظہ فرمائیں۔

۶۔ ایسا بد عقیدہ کہ جس کی بد عقیدگی حد کفر کو پہنچی ہوئی ہو اس کی بد عقیدگی کو اچھا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا جاننے والا اُس کے عقائد باطلہ کفریہ کو جان کر اُن عقائد باطلہ کفریہ کو ماننے والا قرار پاتا ہے۔

۷۔ فاسق فاجر امام کی اقتداء میں نماز کا حکم اس رسالہ کے آخر میں ”فتاویٰ علمائے اہلسنت“ کے تحت مذکور ہے۔

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

والا کے خواہ امام، عالم، قاری، حافظ ہو۔ وہ پیر ہو یا مرید اگرچہ سنی صحیح العقیدہ ہو نماز مکروہ ہے اور واجب الاعادہ۔

امام کی صفات

ذیل کے متشرع سنی صحیح العقیدہ مسلمان نماز پنجگانہ، نماز جمعہ، نماز عیدین، نماز تراویح، نماز جنازہ وغیرہا میں صرف صحیح العقیدہ سنی شخص کو اپنا امام بنائیں یعنی جو توحید و رسالت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ عظمت انبیاء و رسل و ملائکہ و اولیاء و علماء و صلحاء کا قائل ہو، کسی صحیح العقیدہ شیخ طریقت کے ہاتھ پر بیعت ہو، صفات محبوبانِ خدا مثلاً علم غیب وغیرہا کا معتقد ہو، نعرہ رسالت اور صلاۃ و سلام کو جائز کہتا ہو، بزرگانِ دین امام اعظم ابوحنیفہ، سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی، مجددِ دالف ثانی، خواجہ معین الدین چشتی، داتا گنج بخش اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی وغیرہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مسلک حق کا پابند ہو، گیارہویں، تیجہ، چہلم، عرس، انگوٹھے چومنا، حیلہ اسقاط، کفنی، اذان علی القبر وغیرہا معمولاتِ اہل سنت کو مستحسن قرار دیتا ہو۔ مختصر یہ کہ وہ اہل بدعت سے مجتنب (اجتناب کرنے والا) اور علاماتِ اہل سنت سے متصف ہو۔

کھری نشانی

امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ کا نام سن کر خوش ہوتا ہو تو کھری امام ہے ورنہ کھوٹا۔ عقائد صحیحہ کے علاوہ کردار و گفتار و رفتار سنت و شریعت کے مطابق ہو بالخصوص داڑھی منڈانے والا یا قبضہ سے کم کرنے والا فاسق فاجر معطن نہ ہو، صاحب علم و تقویٰ ہو

بے داڑھی منڈانے اور قبضہ سے کم داڑھی رکھنے والے امام کی اقتداء کا حکم علامہ سید ابوالبرکات علیہ الرحمہ کے فتویٰ میں ملاحظہ ہو اور وہ فتویٰ اسی رسالہ کے آخر میں موجود ہے۔

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

تاکہ لوگ اس کی اقتداء میں رغبت رکھتے ہوں کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کا وارث ہے وہ نہ صرف نماز کا امام ہے بلکہ وارثِ امام الانبیاء ہے۔ (صلی اللہ علیہ وبارک وسلم)

فضیلتِ ائمہ

مذکورہ بالا اوصافِ حمیدہ کے حامل امام کی اقتداء میں نماز بڑی فضیلت رکھتی ہے۔

احادیث مبارکہ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

اگر تمہیں یہ بات اچھی لگے کہ تمہاری نماز مقبول ہو تو وہ شخص تمہاری امامت کرائیں جو تم میں سب سے اچھے ہیں۔^۵

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اگر تمہیں یہ بات اچھی لگے کہ تمہاری نماز مقبول ہو تو تمہارے علماء تمہاری امامت کرائیں کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے رب کے مابین سفیر ہوتے ہیں۔^۹

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

۵ المستدرک علی الصحیحین، ۳۴۔ کتاب: معرفة الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ۱۹۸۰۔ إنسر کم أن تقبل صلاتکم فلیؤمکم خیار کم، برقم: ۵۰۳۴، ۲۳۷/۴، مطبوعة: دار المعرفة، بیروت، الطبعة الثانية: ۵۱۴۲۷-۲۰۰۶ م، وفيه: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: إنسر کم أن تقبل صلاتکم فلیؤمکم خیار کم فانہم وفد کم فیما بینکم وبين ربکم عزوجل.

۹ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، کتاب الصلاة، باب الإمامة، برقم: ۲۳۲۵، ۱۶۵/۲، مطبوعة: دارالکتب

العلمية بیروت، الطبعة الأولى: ۱۴۲۲ھ-۲۰۰۱م

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

تم اپنے بہترین لوگوں کو اپنا امام بناؤ کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے
رب کے مابین سفیر ہوتے ہیں۔^{۱۰}

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اگر تمہیں یہ بات بھلی لگے کہ تمہاری نماز پاکیزہ ہو تو تم اپنے بہترین
لوگوں کو آگے بڑھاؤ یعنی امام بناؤ۔^{۱۱}

ان ارشادات عالیہ متبرکہ مقدسہ سے معلوم ہوا کہ نماز کی عند اللہ مقبولیت و صحت و درستگی کے
لئے امام کا صحیح العقیدہ، صاحب علم و تقویٰ ہونا ضروری ہے۔

بڑا مرتبہ

امامت نماز بہت بڑا عہدہ ہے۔ شب معراج آقائے دو جہاں، فخر کون و مکاں
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت انبیاء کا منصب جلیل عطا ہوا اور آپ زندگی بھر
امامت کراتے رہے۔

امت کا پہلا امام

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد
فرمایا:

۱۰ سنن الدارقطنی، کتاب الجنائز، ۱۶۔ باب: تخفیف القراءة لحاجة، برقم: ۱۸۶۳، ۷۴/۲، مطبوعہ: دار
الکتب العلمیہ، بیروت، الطبعة الأولى: ۱۴۱۷ھ - ۱۹۹۶م۔

۱۱ سنن الدارقطنی، کتاب الجنائز، ۱۷، باب نہی رسول اللہ ﷺ أن يقوم الإمام..... إلخ، برقم: ۱۸۶۵،
۷۴/۲، مطبوعہ: دار الکتب العلمیہ، بیروت، الطبعة الأولى: ۱۴۱۷ھ - ۱۹۹۶م وفيه قال رسول

اللہ ﷺ: "إذا سرکم أن تقبل صلاتکم، فلیؤمکم خیارکم، فإنهم وفدکم فیما بینکم و بین ربکم"

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. ۱۲

ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔

فائدہ ﴿﴾ یہ حکم مرض الوصال کے وقت فرمایا تھا اُس وقت سینکڑوں صحابہ جن میں حضرت عمر فاروق و حضرت عثمان غنی و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسے بزرگ موجود تھے مگر آپ نے چین کر امام مقرر فرمایا تاکہ آئندہ میری امت بھی بہتر امام منتخب کیا کرے۔

زندگی کا معمول

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان میت پر بذاتِ خود نماز پڑھایا کرتے تھے اور اگر آپ سے نماز جنازہ پڑھائے بغیر صحابہ کسی مسلمان کو دفن دیتے تو آپ انہیں ایسا کرنے سے منع فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے:

یہ قبریں اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں میری نماز ان کے رہنے والوں کے لئے نور بنتی ہے۔ ۱۳

اس حدیث کی تشریح و تفصیل فقیر کی کتاب ”ہر قبر میں حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زیارت“ کا مطالعہ کیجئے۔

۱۲ صحیح البخاری، ۱۰۔ کتاب الأذان، ۶۸۔ یا تم الإمام..... إلخ، برقم: ۱۰۷۱۳ / ۱۷۲، مطبوعہ: دار الکتب العلمیۃ، بیروت، الطبعۃ الأولى: ۱۹۹۹-۲۰۰۱ء

مشکاة المصابیح، کتاب الصلوٰۃ، ۲۶۔ باب الإمامۃ، الفصل الثانی، برقم: ۱۰۱۱۲۲ / ۲-۲۲۲، مطبوعہ: دار الکتب العلمیۃ، بیروت، الطبعۃ الأولى: ۱۹۹۹-۲۰۰۳ء

۱۳ صحیح مسلم، ۱۱۔ کتاب الحنائن، ۲۳۔ باب الصلوٰۃ علی القبر، برقم: ۶۵۹ / ۲-۹۵۶، مطبوعہ: دار الکتب العلمیۃ، بیروت

امام بد مذہب یا بد عقیدہ

بعض حضرات بڑی بے نیازی سے کہہ دیتے ہیں ہم نے نماز پڑھنی ہے ہمیں امام کے عقیدہ کے کیا غرض۔ ایسے لاغرض حضرات کا پتہ تو تب چلے گا جب ایسی نماز کے متعلق باز پرس ہوگی کیونکہ نماز باجماعت کا دار و مدار امام کی نماز پر ہے اگر امام کے دل کا قبلہ گنگا ہو تو پھر کیا کرو گے۔ ان کی نماز دیکھی لیکن ان کا عقیدہ نہ دیکھا تو کیا صرف نمازوں سے کام چل جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ پڑھئے تو معلوم ہو کہ ابو جہل طواف کرتا، لبیک پکارتا، منیٰ مزدلفہ جاتا، عرفات تک حجاج کی خدمات کے لئے کمر بستہ رہتا لیکن لعنت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ (تفصیل دیکھئے رسالہ ”حاجی ابو جہل“ اور ”عقائد المنافقین“)

وہ منافقین جو جمعہ، جماعت، حج اور صوم و صدقات بلکہ جہاد میں صف اول کی زینت ہوتے انہیں قرآن مجید کے فیصلہ کے مطابق جہنم کے نچلے (سب سے سخت تر) طبقے میں جگہ ملی۔ اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں ان کے دل کا قبلہ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس نہیں آیا۔ اسی طرح جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو اس کے دل کے قبلہ کا حال ان سے بھی بدتر ہے تبھی تو اس امام کا لقب بد مذہب اور بد عقیدہ ہے۔

بد عقیدہ امام کا انجام

دورِ حاضرہ میں چونکہ دینی حمیت اور اسلامی غیرت ٹھنڈی پڑ گئی ہے ورنہ ہمارے نمازی حضرات ایسی بے حسی کا شکار نہ ہوتے جب اسلام اپنے جو بن پر تھا تو غیرتِ اسلامی کا بھی جوش عروج پر تھا۔

صاحب تفسیر روح البیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ”عبس و تنولی“ کی تفسیر میں لکھا

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ہے کہ:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک امام ہر نماز میں یہی سورۃ پڑھا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ نے اُس امام کو بلا کر قتل کرادیا کیونکہ ہر نماز میں یہ سورۃ پڑھنے سے معلوم فرمایا کہ منافق ہے اور اُس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے اسی لئے اس سورۃ ہی کو ہر نماز میں پڑھتا ہے جو بظاہر عتاب معلوم ہوتی ہے۔^{۱۴}

امامت کے شکاری

ہم یہ نہیں کہتے کہ بد مذہبوں کو قتل کرو یہ حکومت کا کام ہوتا ہے لیکن اتنے بے غیرت تو نہ بنو کہ معمولی سی غفلت سے معراج المؤمنین جیسی عبادت کو ضائع کر دو اور دورِ حاضرہ میں خصوصیت سے کڑی نگرانی رکھو کہ امامت کے شکاری تمہارے بھیس میں ہی تمہاری نمازیں برباد کر رہے ہیں وہ اس طرح کہ ہر بد مذہب اولاً تو نمایاں ہے مثلاً مرزائی، رافضی، وہابی، غیر مقلد وغیرہ لیکن دیوبند کے عقائد کا حافظ، قاری، مولوی جیسا دیس ویسا بھیس بدلنے کا ماہر ہے بلکہ اس کی اسے ٹریننگ دی جاتی ہے دوسرے بد مذہب امامت کے شوقین نہیں بلکہ وہ صرف اپنی جماعت تک محدود رہتے ہیں اور دیوبندی عقیدہ کے لوگ اہل سنت کو وہابی بنانے کے شوق میں تقیہ کر کے سنی مساجد میں گھسے رہتے ہیں اور یہی ان کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کا تیارہ کردہ نسخہ ہے چنانچہ اس نے خود لکھا:

^{۱۴} تفسیر روح البیان، ۸۰۔ سورۃ عبس، تحت الآية: أن جاءہ الأعمی، ۱۰۰ / ۳۹، مطبوعۃ: دار إحياء

اگر میرے پاس دس ہزار روپیہ ہو سب کی تنخواہ کر دوں پھر دیکھو خود ہی لوگ وہابی بن جاویں۔^{۱۵}

فائدہ ﴿

لیکن پیسہ سے وہابی تو لوگ بن سکے یا نہیں لیکن تقیہ عملی سے خوب بنائے چنانچہ سینے۔

مولوی اشرف علی صاحب (تھانوی) کا تقیہ عملی

دیوبندیوں کے امام اشرف علی نے جب لکھنؤ میں ملازمت کی تو وہاں تقیہ کر کے میلا دشریف کے قیام و سلام میں شریک ہوتا رہا کیونکہ لکھنؤ کے سب لوگ سنی تھے وہاں دیوبندیوں کا چلنا مشکل تھا مگر جب رشید احمد گنگوہی کو معلوم ہوا تو اس نے اشرف علی تھانوی کو ڈانٹا کہ سنا ہے کہ تم لکھنؤ میں قیام و سلام و میلا کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہو اور صلواتیں پڑھتے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اشرف علی نے یہ جواب دیا کہ:

الحمد للہ کہ میں یہاں نہ کسی کا محکوم ہوں نہ کسی سے مجبور مگر پوری مخالفت کر کے قیام دشوار ہے گواہ بھی یہاں کے بعض علماء مجھ کو وہابی کہتے ہیں اور بعض بیرونی علماء بھی یہاں آ کر لوگوں کو سمجھا گئے ہیں کہ یہ شخص (مولوی اشرف علی) وہابی ہے اس کے دھوکے میں مت آنا (اگر میں یہاں کانپور میں میلا د، سلام و قیام نہ کروں) تو اب تین صورتیں محتمل ہیں ایک یہ کہ ایسے مواقع پر کوئی حیلہ کر دیا کرونگا مگر اس کا ہمیشہ چلنا محال ہے دوسرا یہ کہ صاف مخالفت کی

۱۵ الافاضات الیومیہ من الافادات القومیہ بسلسلہ ملفوظات حکیم الامت، ملفوظ نمبر ۳۶۲، جلد ۲، صفحہ ۲۳۹، ناشر ادارہ

جائے مگر اس میں نہایت شور و فتنہ ہے جس کی حد نہیں۔ دنیوی مضرت یہ ہے کہ اس میں جہلاء عوام سے ایذا رسانی کا اندیشہ ہے دینی مضرت یہ کہ اب تک جوان لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کی گئی سب بے اثر و بے وقعت ہو جائے گی اس بدگمانی میں کہ یہ شخص وہابی ہے۔^{۱۶}

انتباہ ﴿مولوی اشرف علی صاحب کی اس تحریر سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ تقیہ اور اس کے علاوہ ہر طرح کا حربہ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے دام تزویر میں پھنس جائیں چونکہ نماز کی امامت سے لوگ آسانی سے ہاتھ لگتے ہیں اسی لئے شکاری امام رات دن اسی فکر میں رہتے ہیں۔

برادرانِ اسلام دیوبندیوں نے یہ نسخہ انگریزوں سے سیکھا ہے چنانچہ انگریز مسلمانوں سے دھوکہ دہی کے لئے اسی نماز کی امامت کے ذریعے کام چلاتے تھے اور چلاتے ہیں ملاحظہ ہو ”نوائے وقت ملتان ۱۲ اکتوبر ۱۹۹۰ء“

سیالکوٹ سے سلیم شیروانی لکھتے ہیں کہ آپ سعودی عرب میں مقیم پچیس امریکی فوجیوں کے قبولِ اسلام پر خوش ہو رہے ہیں لیکن کیا پتہ یہ فوجی کسی انٹیلی جنس یونٹ کے کارکن ہوں اور انہوں نے محض مقاماتِ مقدسہ تک رسائی حاصل کرنے کے لئے قبولِ اسلام کا ڈھونگ رچایا ہو۔

ہم کسی کی نیت کے بارے میں فتویٰ جاری نہیں کر سکتے اگر ایک شخص قبولِ اسلام کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خلوصِ دل سے مسلمان ہوا ہے لیکن ہم اپنے قاری کے اس

۱۶ تذکرۃ الرشید، حصہ اول، صفحہ ۱۳۵، مطبع بلال سٹیٹ سائڈھورہ

احتمال کو رد نہیں کر سکتے کہ یہ قبولِ اسلام کسی سازش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی جنگِ عظیم کے دوران کرنل لارنس ایک برطانوی جاسوس تھا جو کئی سال تک مسلمان بن عربوں کو دھوکہ دیتا رہا۔ یہ شخص بڑی روانی سے عربی بولتا تھا اور بڑے خشوع و خضوع سے نمازیں ادا کرتا تھا۔ تمام لوگ اسے عرب سمجھتے رہے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ایک برطانوی جاسوس تھا اور ترکوں کے خلاف عربوں کو بغاوت پر اکسانے کے مشن پر آیا ہوا تھا۔ عین ممکن ہے کہ ان امریکی فوجیوں نے بھی کسی ایسے مقصد کی خاطر اسلام قبول کیا ہو۔ سعودی عرب کے قانون کے مطابق کوئی غیر مسلم حرمین شریفین کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا کیا عجب کہ ان امریکی فوجیوں نے ان حساس علاقوں تک رسائی کے لئے قبولِ اسلام کا ڈھونگ رچایا ہو لیکن جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں دلوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس لئے ہم کسی کے باطن کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے البتہ سعودی حکومت کو محتاط رہنا چاہیے کہ کوئی دوسرا کرنل لارنس اسلام کے مفاد کو نقصان نہ پہنچا دے۔

فتاویٰ علمائے اہل سنت

فتویٰ حضرت استاد العلماء علامہ سید احمد ابوالبرکات رحمہ اللہ لاہور

آپ کا فتویٰ ہر پہلو سے جامع ہے۔

سوال ﴿ امامت کس شخص کی جائز ہے اور کس کس کی ناجائز اور مکروہ اور سب سے بہتر امامت کس کی ہے؟

جواب ﴿ جو قرأتِ غلط پڑھتا ہو، جس سے معنی فاسد ہوں یا وضوح نہ کرتا ہو یا جزو دین سے کسی ضروری چیز کا منکر ہو جیسے وہابی، دیوبندی، رافضی (شیعہ) غیر مقلد، نیچری،

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

قادیانی، چکلڑ الوی، خاکساری، پرویزی، مودودی وغیرہم ان کے پیچھے نماز باطل محض ہے اور جس کی گمراہی حد کفر تک نہ پہنچی ہو جیسے تفضیلیہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سب سے افضل بتاتے ہیں یا وہ کہ بعض صحابہ کرام مثل امیر معاویہ، عمرو بن عاص، ابو موسیٰ اشعری، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز کراہت شدیدہ تحریرہ مکروہ ہے لہذا کہ انہیں امام بنانا گناہ اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ اور جتنی نمازیں

ان کے پیچھے پڑھی ہوں ان سب کا پھر پڑھنا واجب ہے اور انہی کے قریب ہے فاسق معین مثلاً داڑھی منڈایا شیشی رکھنے والا یا داڑھی کتر واکر حد شرع سے کم کرنے والا یا کندھوں سے نیچے عورتوں جیسے بال رکھنے والا خصوصاً وہ جو چوٹی گندھوائے اور اس میں موباف ڈالے یا ریشمی کپڑا پہنے یا مغرق ٹوپی کلاہ یا ساڑھے چار ماشہ سے زائد کی انگوٹھی یا کئی نگ کی انگوٹھی یا ایک نگ کی دو انگوٹھیاں اگرچہ وہ دونوں مل کر ساڑھے چار ماشہ سے کم وزن کی ہوں پہنے یا سود خور یا ناچ دیکھنے والا ان سب کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے اور جو فاسق معین نہیں یا قرآن عظیم میں ایسی غلطی کرتا ہے جو مفسد نماز نہیں یا نابینا یا جاہل یا ولد الزنا یا امر دیا جذامی یا برص والا یا غسل میت کا پیشہ کرے جس سے لوگ کراہت و نفرت

ہے آج کتنے پیر، علماء، ڈاکٹر ز اور پروفیسر ز ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو صحابی رسول، کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بُرائی بیان کرتے ہیں، ان کی تقریر و تحریر سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح ان تفضیلیت کی طرف میلان بڑھ رہا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہ جن پر ہمارے ماں باپ قربان، ان کی تعریف و توصیف کرتے کرتے ایسے ایسے جملے بول جاتے ہیں جو ظاہر ظہور ان تاملین کے تفضیلی ہونے پر دل ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بغض میں تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور کچھ آپ کی محبت میں اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ عوام اہلسنت کو چاہیے جسے بھی ایسا پائیں تو اس تعظیم، اقتداء وغیرہما سے اجتناب کریں کہ ان کی اقتداء میں نماز شدید مکروہ تحریمی ہے

چاہے وہ کوئی پیر ہو یا عالم ہو یا کوئی پروفیسر یا ڈاکٹر ہو۔

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

کرتے ہیں اس قسم کے لوگوں کے پیچھے نماز مکروہ تنزیہی ہے کہ پڑھنی خلافِ اولیٰ ہے اور پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں اور یہی قسم اخیر کے لوگ حاضرین میں سب سے زیادہ مسائل نماز و طہارت کا علم رکھتے ہوں تو انہیں کی امامت اولیٰ ہے۔

بخلاف ان کے پہلی دو قسم والوں کے کہ اگرچہ (وہابی، مرزائی، شیعہ، مودودی وغیرہم) عالمِ ببحر ہی ہوں حکم کراہت رکھتا ہے مگر جہاں جمعہ و عیدین ایک ہی جگہ ہوتے ہیں اور ان کا امام بدعتی (جس کی بدعت حد کفر کو نہ پہنچی ہو) فاسق معلن ہے اور دوسرا امام نہ مل سکتا ہو وہاں ان کے پیچھے جمعہ و عیدین پڑھنے چاہئیں، خلاف قسم اول مثل دیوبندی، وہابی وغیرہم کے کہ نہ ان کی نماز نماز ہے اور نہ ان کے پیچھے نماز نماز ہے۔ بالفرض وہی جمعہ یا عیدین کا امام ہو اور کوئی مسلمان امام نہ مل سکتا ہو تو جمعہ و عیدین کا ترک فرض ہے۔^{۱۸}

جمعہ کے بدلے ظہر پڑھے اور عیدین کا کچھ عوض نہیں امام اسے کیا جائے جو حنفی المذہب، صحیح العقیدہ، تبع سلف صالحین، صحیح الطہارۃ، صحیح القراءۃ ہو، مسائل نماز و طہارت کا عالم غیر فاسق ہو، نہ اس میں کوئی ایسا جسمانی یا روحانی عیب ہو جس سے لوگوں کو نفرت ہو۔ یہی اس مسئلہ کا اجمالی جواب ہے اور تفصیل کے لئے بہارِ شریعت حصہ سوم، نفی العار اور احکام شریعت ملاحظہ کیجئے۔ فقط (ہفت روزہ رضوان لاہور، بابت جون ۱۹۵۲ء)

۱۸ حضرت علامہ سید ابوالبرکات علیہ الرحمہ نے واضح حکم بیان فرمادیا کہ ”جمعہ و عیدین کا ترک فرض ہے“ یعنی جب صحیح العقیدہ سنی امام نہ ملے تو جمعہ نہ پڑھنا اور عید نہ پڑھنا فرض ہے کیونکہ یہ نماز تنہا ادا نہیں کی جا سکتیں نہ ہی ایسے مقامات پر جماعت کے ساتھ انہیں قائم کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ لہذا جمعہ کی جگہ نمازِ ظہر ادا کرے تاکہ ظہر کا فرض ادا ہو جائے اور عیدین جو کہ واجب ہیں ان کے بدلے کچھ نہیں اور ایسے امام کی اقتداء میں جمعہ و عیدین پڑھ لینا سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے۔ نمازیں تو ضائع کرے گا ہی اور ایمان جانے کا بھی خطرہ موجود ہے کیونکہ بدعتیہ امام کو بدعتیہ سمجھ کر نماز ادا کی تو ایک طرف نماز ضائع کرنے کا گناہ، دوسرا بدعتیہ کی تعظیم کا گناہ اور اگر اسے صحیح جان کر پڑھی تو ایمان سے گیا۔

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

فائدہ ﴿ الحمد للہ اس فتویٰ متبرکہ سے اظہر من الشمس ہوا کہ بد مذہب فرقہ باطلہ نجدیہ وہابیہ، دیوبندیہ، روافض، خوارج وغیرہم کے پیچھے ہم اہل سنت احناف کی نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں، ایسوں کو امام بنانا اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، ان کی اقتداء میں پڑھی ہوئی نمازوں کا اعادہ فرض ہے نہ ان کی نماز شرعاً نماز ہے نہ ان کی اقتداء میں پڑھی ہوئی نماز نماز ہے نہ ثواب بلکہ قیامت میں اس کا حساب اور عدم ادائیگی کی وجہ سے عذاب ہی عذاب۔

انتباہ ﴿ حضرت علامہ سید ابوالبرکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح ہر سنی عالم دین کا یہی نہ صرف فتویٰ بلکہ عمل ہے صرف بیمار ڈرپوک پیروں اور صلح کلی قسم کے مولویوں اور بعض پروفیسروں اور ڈاکٹروں اور وکیلوں میں نجدیوں کے ریا لوں اور ان کی حکومت کے تاثرات سے مرعوب ہو کر کہتے اور ان بد مذہبوں کے پیچھے نمازیں برباد کرتے ہیں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نجدیوں کو صاف کہہ دیا تھا کہ پھانسی پر لٹک سکتا ہوں مگر تم لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔

اسی طرح ہمارے ہر محقق مفتی سنی عالم اور پیر طریقت کا عمل رہا اور ہے مثلاً محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب اور حضرت علامہ حبیب الرحمن اور حضرت غزالی زمان علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہم اللہ تعالیٰ۔

اگر آج کوئی بزدل مولوی یا پیر اس کے برعکس عمل کرتا ہے تو اس کا کیا اعتبار؟

جب یہ معلوم ہو گیا کہ بد مذہب بد عقیدہ لوگوں کی نہ نماز نماز ہے اور نہ ان کی اقتداء میں نماز نماز ہے تو ظاہر ہے کہ بد مذہب امام کی پڑھائی ہوئی نماز سے فرضیت مسلمان کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگی اور قیامت میں اس سے اس نماز کا حساب ہوگا۔ اس کی مزید تفصیل فقیر کے

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

رسالہ ”امام حرم اور ہم“ اور رسالہ ”دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم“ میں پڑھے۔

فتویٰ مجدد برحق امام اہل سنت شاہ احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ

سوال ﴿﴾ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ میں وہابی امام کے پیچھے اہل سنت و جماعت کی

اقتداء خواہ بچگانہ یا تراویح یا جمعہ یا عیدین یا نوافل یا نماز جنازہ درست ہے یا کیا حکم ہے؟

الجواب ﴿﴾ وہابی (دیوبندی) کے پیچھے کوئی نماز فرض خواہ نفل کسی کی نہیں ہو سکتی نہ اُس کے

پڑھنے سے نماز جنازہ ادا ہوا گرچہ نماز جنازہ میں جماعت و امامت شرط نہیں لہذا اگر عورت

امام اور مرد مقتدی ہے نماز جنازہ کا فرض ادا ہو جائے گا کہ اگرچہ مقتدیوں کی اُس کے پیچھے

نہ ہوئی خود اُس کی ہو گئی اور اسی قدر فرض کفایہ کی ادا کو کافی ہے مگر وہابی کی تو نماز خود باطل

ہے ”لأنه لا دین له ولا صلوة لمن لا دین له“ (کیونکہ اس کا تو کوئی دین نہیں اور جس

کا دین نہیں اس کی نماز نہیں) نہ تو اُس کی اپنی ہو سکتی ہے نہ اُس کے پیچھے کسی کی اگرچہ اس کا

ہم مذہب ہو یا اور کسی قسم بد مذہب ہوسنی ہو تو سنی۔ واللہ تعالیٰ اعلم^{۱۹}

یہی امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی قدس سرہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں:

بارہا بتا دیا گیا کہ ”وہابی دیوبندی“ لوگوں کے پیچھے نماز باطل اور خود

ان کی نماز باطل وہ (وہابی کی نماز) نماز ہی نہیں لغو حرکات ہیں

مسلمان اُسی وقت اپنی جماعت قائم کریں اور جماعت نہ ملے تو اپنی

تنہا پڑھے۔^{۲۰}

۱۹ فتاویٰ رضویہ، کتاب الصلاۃ، باب الإمامتہ، مسئلہ: ۷۹۹، ۶/۲۲۰-۲۲۱، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور، اشاعت:

۱۳۱۵ھ-۱۹۹۳م

۲۰ (فتاویٰ رضویہ، کتاب الصلاۃ، باب الإمامتہ، مسئلہ: ۸۰۵/۶۲۱، مطبوعہ: رضا فاؤنڈیشن، لاہور، اشاعت:

۱۳۱۵ھ-۱۹۹۳م)

الغرض سنی مسلمان علمائے اہل سنت کے یہ ارشاداتِ عالیہ سنیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ ہرگز ہرگز کسی وہابی دیوبندی وغیرہ بد مذہب کو اپنا امام نہ بنائیں اگر وہابی دیوبندی مولوی کے سوا کوئی صالح امامت شخص نہ ملے تو تنہا اپنی اپنی نماز پڑھیں اور اس بد عقیدہ مولوی کی اقتداء میں اپنی نمازیں ضائع نہ کریں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

ان تین شخصوں کی نماز ان کے کانوں سے بلند نہیں ہوتی۔ بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ واپس آجائے، عورت جس کے خاوند نے اس سے ناراضگی کی حالت میں رات بسر کی اور اس قوم کا امام جو اس امام سے نفرت رکھتی ہے۔^{۱۲}

حسن الوفا فی شریعتی کتاب مستطاب ”مراقی الفلاح شرح نور الایضاح“ میں فرماتے ہیں کہ:

اگر کسی نے لوگوں کو نماز پڑھائی حالانکہ وہ اس سے نفرت رکھتے تھے تو اس کی تین صورتیں ہیں اگر یہ نفرت اس امام کے فساد عقیدہ یا فساد عمل کی وجہ سے ہے یا اس وجہ سے ہے کہ افضل شخص موجود تھا اور

لہذا اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہو جہاں صحیح العقیدہ سنی امام نہ ملے اور نہ سنیوں کو اپنی جماعت قائم کرنے دی جاتی ہو تو وہاں یہ سنی اپنی تنہا نماز ادا کریں گے کیونکہ نماز دین کا اہم ستون ہے، ایک عظیم فرض ہے اسے ہر ایرہ غیر انتہو خیرہ کے حوالے نہیں کیا جاسکتا۔ تنہا پڑھنے سے کم از کم فرض تو ذمے سے ساقط ہوگا باقی رہا جماعت کا ثواب تو وہ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے وہ جانتا ہے کہ بندہ مجبور ہے نہ اسے جماعت ملی اور نہ قائم کرنے دی گئی، جماعت کی خواہش رکھنے کی بنا پر امید ہے کہ اسے جماعت کا ثواب دیا جائے۔

^{۱۲} سنن الترمذی، ۲۔ أبواب الصلوة، ۲۶۶۔ باب ما جاء فیمن وأم قوماً إلخ، برقم: ۱۰۳۶ /

۲۶۸، مطبوعہ: دار الکتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى: ۱۴۲۱ھ۔ ۲۰۰۰م

Click

اس نے نماز پڑھائی تو ان دونوں صورتوں میں کراہت ہے اور اگر یہی افضل ہے اور اس میں فساد عقیدہ یا فساد عمل نہیں تو اس صورت میں کوئی کراہت نہیں ہے۔^{۲۲}

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اگر تمہیں یہ بات بھلی لگے کہ تمہاری نماز عند اللہ مقبول ہو تو تمہارے علماء تمہارے امام ہونے چاہئیں کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان سفیر ہوتے ہیں^{۲۳} اور دوسری روایت میں ہے کہ تمہارے بہترین لوگ ہی تمہارے امام ہونے چاہئیں۔^{۲۴}

امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام ضامن ہوتے ہیں لہذا مناسب نہیں کہ انسان ایسے لوگوں کا امام بنے جو اس سے نفرت

^{۲۲} مراقی الفلاح شرح نور الإيضاح، کتاب الصلاة، فصل فی الاحق بالإمامة..... إلخ، تحت قوله: أو الخيار إلى القوم..... إلخ، والأعمى، ص: ۱۱۲، مطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ۱۴۱۵ھ - ۱۹۹۵م

^{۲۳} مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، کتاب الصلاة، باب الإمامة، برقم: ۲۳۲۵، ۱۶۵/۲، مطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ۱۴۲۲ھ - ۲۰۰۱م

^{۲۴} المستدرک علی الصحیحین، ۳۴ - کتاب: معرفة الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ۱۹۸۰ - إن سرکم أن تقبل صلاتکم فلیؤمکم خیارکم، برقم: ۵۰۳۴، ۲۳۷/۴، مطبوعة: دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية: ۵۱۴۲۷ - ۲۰۰۶م، وفيه: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: إن سرکم أن تقبل صلاتکم فلیؤمکم خیارکم فانہم وفدکم فیما بینکم وین ربکم عزوجل -

کرتے ہوں۔^{۲۵}

حضرت صدر الشریعہ فرماتے ہیں:

کسی شخص کی امامت سے لوگ کسی وجہ شرعی سے ناراض ہوں تو اس کا امام بننا مکروہ تحریمی ہے اور اگر ناراضگی کسی وجہ شرعی سے نہ ہو تو کراہت نہیں بلکہ اگر وہی حق ہو تو اسی کو امام ہونا چاہیے۔^{۲۶}

اہلسنت کی نماز ہر باطل مذہب والے کے پیچھے باطل اور برباد ہے خواہ وہ وہابی ہو یا شیعہ، مرزائی ہو یا نجدی یا دیوبندی۔ لہذا سنی مسلمان ہر قسم کی نماز میں صرف اپنے ہم عقیدہ علماء کو امام بنایا کریں اور ہرزید و بکر کے پیچھے نماز پڑھ کر اپنی نمازیں برباد نہ کریں۔

فقط والسلام

مدینے کا بھکاری الفقیر القادری محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

^{۲۵} (مختصر إحياء علوم الدّین، الباب الرابع: فی أسرار الصلوة..... إلخ، فصل فی القدوة والإمامه ، ص: ۴۹، مطبوعه: مؤسسة الكتب الثقافية، بیروت، الطبعة الأولى: ۱۴۱۰ھ-۱۹۹۰م)

^{۲۶} بہار شریعت، نماز کا بیان، امامت کا بیان، حصہ: سوم، ۵۶۸/۱، مطبوعه: مکتبۃ المدینہ، کراچی، الطبعة السادسة: ۱۴۳۵ھ-۲۰۱۴م

تنویر الأبصار مع شرحہ السنن المختار، کتاب الصلاة، باب الإمامة، ص: ۷۷، مطبوعه: دار الكتب

العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى: ۱۴۲۳ھ-۲۰۰۲م

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان

کی ایک دلکش کاوش

ہشان الوہیت و تقدیس رسالت کا امین

کوثر و تنیم سے دھلے الفاظ، مشک و عنبر سے مہکا آہنگ

عشق و ادب کی حلاوتوں کا ماخذ

ترجمہ قرآن

کنز الایمان

اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ

اب پشتو زبان میں دستیاب ہے

Click